

# Psa

## Chapter 85

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	לְמַנְצִיחַ	לְבַיִת־	קָרַח	מִזְמוֹר:	רְצִיחַ	יְהוָה	אֲרִצָּךְ	שָׁבַת	שְׁבוֹת]
	ل-موسیقی-کے-سالار	ل-بیٹوں	قورح-کے	زبور	خوش-بوا-ٹو	یہوواہ	اپنی-زمین-سے	لوٹایا-ٹو-نے	[فید]
	<a href="#">H5329</a>		<a href="#">H7141</a>	<a href="#">H4210</a>	<a href="#">H7521</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H7622</a>

(שְׁבִית) יַעֲקֹב:  
(قید) یعقوب-کی  
[H3290](#) [H7622](#)

کیا بحال کو یعقوب پہلے کیا، پسند کو ملک اپنے نے ٹو پہلے رب، اے لے۔ کے راہنما کے موسیقی زبور۔ کا اولاد کی قورح

2	נְשֹׂאת	עֲזֹן	עַמּוּד	כְּסִית	כָּל-	חַטָּאתָם	סִלָּה:
	اٹھایا-ٹو-نے	گناہ	اپنی-قوم-کا	ڈھانپ-دیا-ٹو-نے	سب	اُن-کا-گناہ	سیلاہ
	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H5771</a>		<a href="#">H3680</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H5542</a>

(سیلاہ) دیا۔ ڈھانپ گناہ تمام کا اُس کیا، معاف قصور کا قوم اپنی نے ٹو پہلے

3	אֶסְפָּת	כָּל-	עֶבְרָתָךְ	הַשִּׁבוֹת	מַחְרוֹן	אֶפְדָּ:
	روک-لیا-ٹو-نے	سب	اپنا-قہر	لوٹایا-ٹو-نے	من-شدت	اپنے-غضب-کی
	<a href="#">H0622</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5678</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H2740</a>	<a href="#">H0639</a>

دیا۔ چھوڑ اُسے تھا رہا بھڑک خلاف ہمارے قہر جو دیا، روک نے ٹو سلسلہ کا اُس تھا رہا ہو نازل پر ہم غضب جو

4	שׁוֹבֵנו	אֶלֵּהֵי	יִשְׁעֵנו	וְהַפֵּר	כַּעֲסֶךָ	בְּמִנּוּ:
	بحال-کر-بمیں	خدائے	ہماری-نجات-کے	اور-ختم-کر	اپنا-غضب	ہم-سے
	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3468</a>			

آباز سے بونے ناراض سے ہم کر۔ بحال دوبارہ ہمیں خدا، کے نجات ہماری اے

5	הֲלֵעוֹלָם	הָאֲנָפִי-	בְּנו	הַמִּשְׁפָּחָה	אֶפְדָּ	לְדָר	נָדָר:
	ہ-کیا-ل-بمیشہ	غضبناک-رہے-گا-ٹو	ہم	کھینچے-گا-ٹو	اپنا-غضب	ل-نسل	در-نسل
	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H0599</a>		<a href="#">H4900</a>	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H1755</a>

گا؟ رکھے قائم پشت در پشت قہر اپنا ٹو کیا گا؟ رہے غصے سے ہم تک ہمیشہ ٹو کیا

6	הֲלֵא-	אֶתָּה	תָּשׁוּב	תְּחַיֵּנו	יְעַמְדָּ	יִשְׂמְחוּ-	בָּךְ:
	ہ-کیا-نہیں	ٹو	لوٹے-گا	زندہ-کرے-گا-ہمیں	اور-تیری-قوم	خوش-ہو	ہم-تجھ
	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H2421</a>		<a href="#">H8055</a>	

جائے؟ ہو خوش سے تجھ قوم تیری تاکہ گا کرے نہیں دم تازہ کو جان ہماری دوبارہ ٹو کیا

7	הֲרֵאֵנו	יְהוָה	חֲסִדָּךְ	יִשְׁעֶךָ	תִּתֵּן-	לָנוּ:
	دکھا-ہمیں	یہوواہ	اپنی-رحمت	اور-اپنی-نجات	دے	ل-ہم
	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H3468</a>	<a href="#">H5414</a>	

فرما۔ عطا ہمیں نجات اپنی کر، ظاہر پر ہم شفقت اپنی رب، اے

8	אֶשְׁמְנָה	מָה	יִדְבַּר	וְהֶאֱלָ	יְהוָה	וְכִי	יִדְבַּר	שְׁלוֹם	אֶל-	עַמּוֹ	וְאֶל-	חֲסִידָיו
	سُنوں-گا	کیا	بولتا-ہے	وہ-ایل	یہوواہ	کیونکہ	بولے-گا	سلامتی	إل	اپنی-قوم	اور-إل	اپنے-مقدسوں
	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H7965</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2623</a>	

وְאֶל- יְשׁוּבוּ לְדִסְלָה:  
اور-مت لوٹیں ل-ہے-وقوفی  
[H0408](#) [H7725](#) [H3690](#)

حماقت دوبارہ وہ کہ ہے لازم البتہ گا، کرے وعدہ کا سلامتی سے داروں ایمان اپنے اور قوم اپنی وہ کیونکہ گا۔ فرمائے رب خدا جو گا سنوں کچھ وہ میں جائیں نہ اُلجھ میں

9	וְאֶף	קָרִיב	ל-أَس-سے-ڈرنے-والوں	لִיִּרְאִיו	יִשְׁעוּ	לְשָׁזֵן	כְּבוֹד	בְּאֶרְצֵנוּ:
	یقیناً	قریب	ل-أَس-سے-ڈرنے-والوں	لیرائیو	اُس-کی-نجات	ل-بسنے	جلال	ب-ہماری-زمین
	<a href="#">H0389</a>	<a href="#">H7138</a>	<a href="#">H3373</a>	<a href="#">H3468</a>	<a href="#">H7931</a>	<a href="#">H3519</a>	<a href="#">H0776</a>	

کرے۔ سکونت میں ملک ہمارے جلال تاکہ ہیں مانتے خوف کا اُس جو ہے قریب کے اُن نجات کی اُس یقیناً

10	חֶסֶד-	וְאֵמֶת	וּבְנִשׁוּ	צְדָק	וְשְׁלוֹם	נִשְׁקוּ:
	رحمت	اور-سچائی	ملیں	صداقت	اور-سلامتی	بوسہ-لیا
		<a href="#">H0571</a>	<a href="#">H6298</a>	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H7965</a>	

ہے۔ دیا بوسہ کو دوسرے ایک نے سلامتی اور راستی ہیں، گئے لگ گئے کے دوسرے ایک وفاداری اور شفقت

11	אֵמֶת	מֵאֶרֶץ	הַצְּמַח	צְדָק	מִשְׁמִימִים	נִשְׁקוּ:
	سچائی	من-زمین	پھوٹے-گی	اور-صداقت	من-آسمانوں	جھانکے-گی
	<a href="#">H0571</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H6779</a>	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H8259</a>

گی۔ ڈالے نظر پر زمین سے آسمان راستی اور گی نکلے پھوٹ سے زمین سچائی

12	גַּם-	יְהוָה	יִתֵּן	הַטֹּב	אֶרְצֵנוּ	תִּתֵּן	יְבוּלָה:
	بھی	یہوواہ	دے-گا	بھلائی	اور-ہماری-زمین	دے-گی	اُس-کی-پیداوار
	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H2981</a>	

گی۔ کرے پیدا فصلیں اپنی ضرور زمین ہماری ہے، اچھا جو گا دے کچھ وہ ضرور اللہ

13	צְדָק	ל-سامنے-اُس-کے	יְהַלֵּךְ	וְיִשָּׂם	לְדָרֶךְ	פְּעָמָיו:
	صداقت	ل-سامنے-اُس-کے	چلے-گی	اور-رکھے-گا	ل-راہ	اُس-کے-قدموں
	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H6471</a>	

گی۔ کرے تیار راستہ لئے کے قدموں کے اُس کر چل آگے آگے کے اُس راستی